

درود نقشبندیہ (۳۹)

یہ درود سلسلہ نقشبندیہ کے کچھ حضرات میں پڑھا جاتا ہے کیوں کہ اس سلسلے کے کچھ بزرگان
تے اس درود کو اپنے معمولات میں بطور درود پڑھا اس درود کے لیے شمار روحانی اثرات و آثار
پائے یہ درود دل کی صفائی کے لیے بہت مجرب ہے اس درود شریف کے پڑھنے سے

تیسرے خلق بہت ہوتی ہے اور حلقہ ارادت میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور مریدوں کو اس درود کے پڑھنے سے بے پناہ فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں جو شخص تزکیہ نفس کے لیے اس درود پاک کو پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ۱۲۰ دن تک بعد نماز عشاء اسے روزانہ گیارہ سو مرتبہ پڑھے انشاء اللہ اس مدت میں نفس کو پاکیزگی حاصل ہو جائے گی اور جو شخص ایک سال تک روزانہ ۱۱ مرتبہ تیسرے خلق کی نیت سے اسے پڑھے دنیا اس کے لیے سخر ہو جائے گی جس مقام پر جہاں جائے وہیں عزت پائے گا۔ اور بعد نماز فجر ۱۱ مرتبہ روزانہ پڑھنا شہادت نفس اور شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ

اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا وَ

انبیاء کے حیران محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

نَبِيِّنَا الْأَوْلِيَاءِ وَنَرَبِّ بَرَقَانِ الْأَصْفِيَاءِ وَ

اولیاء کے آفتاب اور برگزیدہ بندوں کے ماہ درمخشاں اور

يُورِحِ الثَّقَلَيْنِ وَضِيَاءِ الْخَافِقِينَ

ثقلین کے سورج اور مشرقی و مغربی کی ضیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج